

154588 - شرعی اوزان اور پیمانوں کی مقدار کا معاصر مصطلحات میں تعین

سوال

معاصر پیمائشی پیمانوں میں مد، صاع، برید، ذراع، فرسخ اور قله کی کتنی مقدار بنتی ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله:

اول:

کتاب و سنت میں مذکور اوزان، پیمائش اور ماپنے کی مصطلحات بیان کرنے کے حوالے سے متعدد معاصر محققین نے کام کیا ہے، انہوں نے متقدم علمائے کرام کی جانب سے ان کی بیان کی گئی مقداروں کو معاصر مصطلحات کی روشنی میں بیان کیا ہے، ان عرب علمائے کرام کی تالیفات میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1. محمود فاخوری اور صلاح الدین خوام کی مشترکہ تالیف: موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية ، وما يعادلها بالمقادير الحديثة : الأطوال ، المساحات ، الأوزان ، المكييل "
2. محمد نجم الدين كردی کی کتاب: " المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها - كيل ، وزن ، مقياس - منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر " -
3. علی مبارک پاشا کی کتاب: " الميزان في الأقيسة والأوزان " -
4. منير حمود فرحان كبیسی کی کتاب: " المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية " الأوزان والمكييل والمقاييس " -
5. محمد جلیلی کی کتاب: " المكييل والأوزان والنقود العربية " -
6. محمد صبحی حلاق کی کتاب: " الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكييل والأوزان الشرعية " -
7. الشیخ عبد الله بن سليمان المنيع کا تحقیقی مقالہ، بعنوان: " تحويل الموازين والمكييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة " ان کا یہ مقالہ مجلہ " البحوث الإسلامية " (شماره نمبر: 59) میں شائع ہوا ہے۔
8. الشیخ وهبه زحیلی نے اپنی کتاب: " الفقه الإسلامي وأدلته " میں شرعی اوزان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

دوم:

مکرم سائل نے جن اوزان، پیمائش اور پیمانوں کی تفصیلات معاصر مصطلحات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی ہے ان میں "میل" کا اضافہ کرتے ہوئے ان سب کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

1- مُد:

الشیخ عبد اللہ بن سلیمان المنیع حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر مد کو ایک مکمل رطل اور تہائی رطل کے برابر شمار کریں تو پھر مد کی مقدار 544 گرام ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ رطل کی مقدار 408 گرام ہے۔"
"مجلة البحوث الإسلامية" (59 / 179)

2- صاع:

الشیخ عبد اللہ بن سلیمان المنیع حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"مملکت سعودی عرب میں سپریم علما کونسل نے صاع کی کلو گرام میں مقدار نکالنے کے لئے تحقیق کی تھی اور اس تحقیق میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے صاع کی مقدار چار مُد کو بنیاد بنایا گیا تھا، اور یہ کہ ایک مد درمیانی قامت والے شخص کی دونوں ہتھیلیوں کے بھراؤ کو کہتے ہیں، اس تحقیق میں یہ بھی شامل تھا کہ درمیانی قامت کے شخص کی ہتھیلیوں میں کتنی مقدار آتی ہے۔ چنانچہ اس تحقیق کے نتائج یہ نکلے کہ تقریباً 650 گرام ایک مد کی مقدار ہے، اس بنا پر صاع کی مقدار 2600 گرام ہوئی۔"
"مجلة البحوث الإسلامية" (59 / 178)

3- قُلَّة:

الشیخ عبد اللہ بن سلیمان المنیع حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"اہل علم کے ہاں جو قلعہ مشہور ہے یہ ہجر بستی کا قلعہ ہے، یہ بستی مدینے کے قریب ہی واقع ہے، یہاں پر ہجر سے مراد بحرین کی ہجر بستی مراد نہیں ہے۔"

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ایک قلعے میں 250 رطل ہوتے ہیں، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ رطل کی گراموں میں مقدار 408 گرام ہے، تو پھر ایک قلعے کی مقدار $250 \times 408 = 102000$ یعنی 102 کلو گرام بنے گی۔"

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

"مجلة البحوث الإسلامية" (59 / 184)

4- ذراع:

الشیخ وہبہ زحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"ذراع کا لفظ بول کر فقہی کتابوں میں ہاشمی ذراع [باتھ] مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی 61.2 سم ہے۔"

5- میل:

ایک میل 4000 ذراع کا ہوتا ہے یعنی 1848 میٹر لمبائی ایک میل کی بنتی ہے۔

6- فرسخ:

ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، یا 5544 میٹر لمبائی رکھتا ہے یا 12000 قدم اس کی لمبائی ہوتی ہے۔

7- برید:

ایک عربی برید 4 فرسخ کا ہوتا ہے، یا 22176 میٹر یا 22.176 کلومیٹر اس کی لمبائی بنتی ہے۔

"الفقه الإسلامي وأدلته" (1 / 74 ، 75)

واللہ اعلم